

وَلَقَدْ نَسَرْنَا الْقُرْآنَ
لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّاكِرٍ

قرآن مجید

مست وجمہ
عالیجناب حضرت مولانا محمد علی صاحب
مؤلف
بیان القرآن انگریزی ترجمہ القرآن وغیرہ

۲۲

وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ
تَعْمَلْ صَالِحًا نُورًا نُورًا أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ
وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿۳۱﴾

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُمْ كَأَحَدٍ مِّنَ
النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ
مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿۳۲﴾
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ
تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَاتَّقِينَ الصَّلَاةَ
وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿۳۳﴾
وَإِذْ كُنَّ مَا يُبْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِّنْ
آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿۳۴﴾

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِينَ وَالْقَنَاتِ
الصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ
وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ
الْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ
وَالصَّابِغَاتِ وَالْحُفُوظِينَ وَالْحُفُوظَاتِ
وَالْحُفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا

اور جو کوئی تم میں سے اللہ اور اُس کے رسول کی فرمانبرداری ہوگی
اور اچھے عمل کرے گی ہم اس کا اجر اسے دو چندان دیں گے
اور ہم نے اس کے لیے عزت والا رزق تیار کیا ہے۔

اے نبی کی عورتو! تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو،
اگر تم تقوے اختیار کرو! تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو،
بات نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ جس کے دل میں بیماری ہو
طمع کرے اور نیکی کی بات کہو

اور اپنے گھروں میں ٹھیری رہو اور پہلی جاہلیت کی طرح بناؤ
سنگار نہ دکھاتی پھرو اور نماز کو قائم کرو، اور
زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔
اللہ تمہیں چاہتا ہے کہ تم سے اے اہل بیت ناپاکی کو
دور کرے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے
اور اسے یاد رکھو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں
اور حکمت سے پڑھا جاتا ہے، اللہ تمہیں باریک باتوں کا
جاننے والا خبردار ہے

مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن
مرد اور مومن عورتیں اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار
عورتیں اور صدق دکھانے والے مرد اور صدق دکھانیوالی عورتیں اور
صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد اور
فروتنی کرنے والی عورتیں اور نیرت کرنے والے مرد اور نیرت کرنے والی عورتیں
اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں
کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے

وَالذُّكْرُ لَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً
وَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۳۵﴾
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ
إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا ﴿۳۶﴾

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تَخَفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ
مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ
أَنْ تَخْشَاهُ فَلَئِمَّا قَضَى زَيْدًا مِنْهَا
وَ طَرًّا زَوْجُكَهَا لَيْكِي لَا يَكُونَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ
إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَ طَرًّا وَ كَانَ
أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿۳۷﴾

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا
فَرَضَ اللَّهُ لَهُ تَسْوَةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ
خَلَقُوا مِنْ قَبْلُ وَ كَانَ أَمْرُ اللَّهِ
قَدْرًا مَقْدُورًا ﴿۳۸﴾

الَّذِينَ يَبْلِغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ
وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَ كَفَى

مرد اور یاد کرنے والی عورتیں ان کے لئے اللہ نے مغفرت
اور بڑا اجر تیار کیا ہے

اور نہ یہ کسی مومن مرد نہ کسی مومن عورت کو شایاں ہے
کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے
تو وہ اس معاملہ میں کچھ (اپنا) اختیار سمجھیں۔ اور
جو کوئی اللہ تم اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ
گھلی گمراہی میں دور نکل گیا

اور جب تو اسے جس پر اللہ نے انعام کیا اور جس پر تو نے
انعام کیا، کہتا تھا اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے
اور اللہ کا تقویٰ کر اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپاتا ہے
جسے اللہ ظاہر کرنے والا ہے اور تو لوگوں سے ڈرتا ہے اور اللہ تم
زیادہ حقدار ہے کہ تو اس سے ڈرے۔ پھر جب زید نے اس سے
قطع تعلق کر لیا تو ہم نے اُسے نیرے نکاح میں دیدیا تاکہ مومنوں
پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی
نہ رہے جب وہ اُن سے قطع تعلق کر لیں۔ اور اللہ
کا حکم ہو کر رہتا ہے

نبی پر اس کے بارے میں کوئی مضائقہ نہیں جو اللہ نے
اس کے لیے مقرر کیا ہے یہی اللہ تم کا قانون ان کے
بارے میں ہے جو پہلے گزر چکے۔ اور اللہ تم کا حکم ایک
اندازہ ہے جو ٹھیرا یا جا چکا ہے

وہ لوگ جو اللہ تم کے پیغاموں کو پہنچاتے ہیں اور اسی سے
ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوائے کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ

يَا لِلّٰهِ حَسِبًا ۝۳

حساب لینے والا بس ہے

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبًا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ
وَلٰكِن رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّۦنَ
۝۴ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تم ہر چیز کو جاننے والا ہے اے لوگو! جو ایمان لائے ہو اللہ تم کو بت یاد کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا
كَثِيْرًا ۝۵
وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاٰصِيْلًا ۝۶

اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرو۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَ مَلَائِكَتُهٗ
لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۝
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ۝۷

وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالے۔ اور وہ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے

تَحِيّٰتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۝۸ وَاَعَدَّ
لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ۝۹

ان کی دعائے ملاقات جس دن وہ اس سے ملیں گے سلامتی ہوگی اور ان کے لیے عزت والا اجر تیار کیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَٰهِدًا
وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيْرًا ۝۱۰

اے نبی! ہم نے تجھے گواہ بنا کر بھیجا ہے اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔

وَ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرًا جَا مُنِيْرًا ۝۱۱
وَ بَشِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَاێنَّ لَهُم مِّنَ
اللّٰهِ فَضْلًا كَثِيْرًا ۝۱۲

اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن کرنیوالا سوچ۔ اور مومنوں کو بشارت دے کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔

وَلَا تَطْعَمِ الْكٰفِرِيْنَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ دَعُوْا
اٰذِہُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَ كَفٰی
بِاللّٰهِ وَ كِيْلًا ۝۱۳

اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مان اور ان کے ایذا دینے کی پروا نہ کر اور اللہ پر بھروسہ کر اور اللہ تم کا ساز بس ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نَكَحْتُمُ
الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوْهِنَّ مِّنْ قَبْلِ
اَنْ تَمْسُوْهِنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِّنْ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو قبل اس کے کہ تم انہیں چھوؤ تو تمہارے لیے ان پر کوئی عسرت

عَدَاةٌ تَعْتَدُوْنَهَا فَسَتَعُوْهُنَّ وَاَسْرَحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَبِيْلًا ۝۵
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ
 الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ
 يَمِيْنِكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَدَنِ
 عَمِكَ وَبَدَنِ عَمَّتِكَ وَبَدَنِ خَالَكَ
 وَبَدَنِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ
 وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا
 لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا
 خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ قَدْ
 عَلِمْنَا مَا قَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ أَزْوَاجِهِمْ
 وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِيَكِيْلًا يَكُوْنُ
 عَلَيْكَ حَرَجٌ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝۶
 تُرْجَى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْتَى إِلَيْكَ
 مَنْ تَشَاءُ ۚ وَمِنْ ابْتِغَاءِ مَتْنٍ عَزَلْتَ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ
 أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا
 آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي
 قُلُوْبِكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ۝۷
 لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ
 تَبْدَلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ
 حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنِكَ ۖ وَكَانَ
 اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ۝۸

نہیں جسے تم شمار کرو، سوا انہیں سامان دو اور انہیں نبوی
 کے ساتھ رخصت کر دو
 اسے نبی ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں جائز کر دی ہیں
 جنہیں تو نے ان کے مہر دے دیئے ہیں اور جس کا تیرا
 دایاں ہاتھ مالک ہو اس سے جو اللہ نے تجھے (کفار سے)
 دلایا — اور تیرے چچا کی بیٹیاں اور تیری بھوپھیوں کی بیٹیاں اور
 تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالوں کی بیٹیاں جنہوں نے تیرے
 ساتھ ہجرت کی — اور مومن عورت اگر وہ اپنے تئیں نبی کو بخش لے
 اگر نبی چاہے کہ اس سے نکاح کرے یہ خاص تیرے
 لیے ہے۔ مومنوں کے لیے نہیں — ہم جانتے ہیں
 جو ہم نے ان کے لیے ان کی بیویوں کے اور ان کے باپ
 میں جن کے ان کے داہنے ہاتھ مالک ہوئے فرض کیا ہے تاکہ
 تجھ پر تنگی نہ ہو اور اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے
 (تجھے اختیار ہے کہ ان میں سے جسے چاہے پیچھے رکھے اور جسے
 چاہے اپنے پاس جگہ دے اور جسے تو ان میں سے چاہے جن
 سے تو نے علیحدگی اختیار کی تھی تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں یہ بہت قریب
 کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور غلگین نہ ہوں اور سب کی سب اس
 پر راضی رہیں جو تو انہیں دے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں
 ہے اور اللہ جاننے والا بردبار ہے
 (اس کے بعد تیرے لیے (اور عورتیں) نکاح میں لانا جائز نہیں اور
 نہ یہ کہ تو ان کی جگہ دوسری بیویاں بدل لے خواہ ان کا حسن تجھے
 اچھا لگے مگر جس کا تیرا دایاں ہاتھ مالک ہو چکا، اور اللہ تم
 ہر چیز پر نگہبان ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ
النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ
غَيْرِ نَظَرٍ إِنَّهُ لَوَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ
فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا
مُسْتَأْسِينَ لِحَدِيثٍ ط إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ
يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَجِى مِنْكُمْ وَاللَّهُ
لَا يَسْتَجِى مِنَ الْحَقِّ ط وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ
مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ط
ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ط وَمَا
كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا
أَنْ تُنْكَحُوا أَرْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ط
إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ۝۳۷
إِنْ تُبَدُّوا شَيْعًا أَوْ تُخَفَّوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۳۸
لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا ابْنَاتِهِنَّ
وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا ابْنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا
أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَاءَ بَهْتٍ وَلَا
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ۝۳۹ وَالتَّقِيْنَ ۝۴۰
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۴۱
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ط
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝۴۲

اے لوگو جو ایمان لائے ہو نبی کے گھروں میں داخل
نہ ہو سواٹے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی
جائے (مگر اس کے بھی پکنے کا انتظار کر نیوالے نہ ہو بلکہ تمہیں
بلایا جائے تو داخل ہو پھر جب تم کھانا کھا لو تو متفرق ہو جاؤ اور
باتوں میں نہ لگ جاؤ۔ یہ بات نبی کو تکلیف دیتی
ہے مگر وہ تم سے حسیا کرتا ہے اور اللہ تم سے
بات سے شرم نہیں کرتا اور جب تم ان سے کوئی
چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے ان سے مانگو۔ یہ
تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاک ہے
اور تمہیں مناسب نہیں کہ اللہ کے رسول کو ایذا دو۔ اور نہ
یہ کہ اس کی بیویوں سے اس کے بعد کبھی نکاح کرو۔ یہ
بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے
اگر تم کچھ ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو اللہ تمہیں
کو جاننے والا ہے۔
ان پر اپنے باپوں کے سامنے ہونے، میں کوئی گناہ نہیں
اور نہ اپنے بیٹوں کے اور نہ اپنے بھائیوں کے اور نہ اپنے بھتیجیوں کے
اور نہ اپنے بھانجوں کے اور نہ اپنی عورتوں کے اور نہ اس
کے جن کے ان کے دلہنے ہاتھ مالک ہیں اور (مے بی بی) اللہ
کا تقویٰ کرو اللہ ہر چیز پر گواہ ہے
اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے لوگو
جو ایمان لائے ہو اس پر درود بھیجو اور
سلام بھیجو

وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔

اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انھوں نے (قصور) کیا ہو تو وہ ہستان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں

اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے کہ اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو انھیں ایذا نہ دی جائے۔ اور اللہ تمہے بخشنے والا رحم کرنے والا ہے

اگر منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں بُری خبریں اڑانے والے باز نہ آئیں تو ہم تجھے ان کے خلاف اٹھائیں گے پھر وہ اس شہر میں تیرے ساتھ نہ رہنے پائیں گے مگر تھوڑا پھٹکارے ہوئے جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور قتل کیے جائیں گے۔

(ایسا ہی) اللہ کا قانون ان میں (رہا ہے) جو پہلے گزر چکے اور تو اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہ پائے گا۔

لوگ تجھ سے (موجود) گھڑی کے متعلق پوچھتے ہیں کہ دے اس کا علم صرف اللہ کو ہے اور تجھے کیا معلوم ہے کہ شاید وہ گھڑی قریب ہی ہو۔

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿۷﴾

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿۸﴾

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِئِبِهِنَّ ذَلِكَ آدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۹﴾

لَيْسَ لَمْ يَنْتَه الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ شَمًّا لَا يُجَادِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿۱۰﴾

مَلْعُونِينَ ؕ آيَسًا تَقْفُوا أُوذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ﴿۱۱﴾

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ تَجْدَلِ سُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿۱۲﴾

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿۱۳﴾

اللہ تم نے کافروں پر لعنت کی ہو اور ان کے لیے جہنمی ہوئی آگ تیار کی ہے ہمیشہ اس میں رہیں گے نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔

جس دن ان کے منہ آگ میں اٹائے جائیں گے کہیں گے اے کاش! ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی سوائے انہوں نے ہمیں رستہ سے گمراہ کر دیا۔

اے ہمارے رب انہیں دو چاند عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت کر۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موٹھی کو ایزادی سو اللہ نے اُسے اس سے بڑی کیا جو وہ کہتے تھے اور وہ اللہ کے نزدیک مرتبے والا تھا

اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تم کا تقوٰے کرو اور سیدھی بات کہو۔

وہ تمہارے لیے تمہارے عملوں کی اصلاح کرے گا اور تمہارے گناہ تمہیں بخش دے گا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی بھاری کامیابی حاصل کی

ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے انکار کیا کہ اس کا بوجھ اٹھائیں اور اس سے ڈرے اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا

وہ بڑا ظلم کرنے والا بڑا جاہل ہے تاکہ اللہ تم منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے اور تاکہ اللہ تم مومن

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرِينَ وَاعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۝
خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا
وَلَا نَصِيرًا ۝

يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ
يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُولَ ۝
وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا
فَأَصَلَبْنَاكَ السَّبِيلَا ۝

رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ
وَ الْعَنَّهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
أَذُوا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا
وَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ۝

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَ يُعْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ
فَقَدْ قَامَ قَوْلًا عَظِيمًا ۝

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ
وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
يَحْمِلْنَهَا وَ أشفقنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَ الْمُنَافِقَاتِ
وَ الْمَشْرِكِينَ وَ الْمُشْرِكَاتِ وَ يَتُوبَ

اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
مَغْفِرَتٌ كَثِيرَةٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

مردوں اور مومن عورتوں پر رجوع برحمت کرے۔ اور اللہ
مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے

سُورَةُ سَبَأٍ مَكِّيَّةٌ (۳۴)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ①
يَعْلَمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ
مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ
فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ②
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ
قُلْ بَلَىٰ وَرَأَيْتُمُ اللَّيْلَ تَأْتِيكُمْ بِالظُّلُمِ
لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ
وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ
وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ③

اللہ تعالیٰ تمہارا رحم کرنے والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے
سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس کا وہ (سب کچھ) ہے جو
آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور آخرت میں (بھی) اسی
کی تعریف ہے اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔
وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ
اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں
چڑھتا ہے اور وہ رحم کرنے والا بخشنے والا ہے
اور کافر کہتے ہیں وہ گھڑی ہم پر نہیں آئے گی۔ کہہ
ہاں میرے رب کی قسم (جو) غیب کا جاننے والا ہے
وہ تم پر آکرے گی اس سے ایک ذرہ بھر بھی غائب نہیں رہتا (نہ آسمان
میں اور نہ زمین میں اور نہ اس سے چھوٹا اور نہ بڑا مگر سب کچھ
ایک کھلی کتاب میں ہے۔

تاکہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لاتے اور اچھے عمل
کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔
اور جو لوگ ہماری آیتوں کے ہرنے میں کوشش کرتے ہیں۔
ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہے۔
اور وہ جنہیں علم دیا گیا ہے جانتے ہیں کہ وہ جو تیری طرف
تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا وہی سچ ہے اور اس کا

رستہ دکھاتا ہے جو غالب تعریف کیا گیا ہے۔

اور کافر کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایک آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تم ایک نئی پیدائش میں آؤ گے

اس نے اللہ پر جھوٹ بنایا ہے یا اسے جنون ہے بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔

کیا وہ اس پر غور نہیں کرتے جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے آسمان اور زمین سے ہے۔ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں نابود کر دیں۔ یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ اس میں ہر ایک رجوع کرنے والے بندے کے لیے نشان ہے

اور داؤد کو ہم نے اپنی طرف سے بزرگی دی۔ لے پہاڑو! اس کے ساتھ تسبیح کرو اور پرندوں کو ران کے کام میں لگایا اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا

کہ فرخ زور ہیں بنا اور ران کے بنانے میں اندازہ نگاہ رکھ اور اچھے عمل کرد جو تم کرتے ہو میں اُسے دیکھتا ہوں

اور سلیمان کے لیے ہوا کو کام میں لگا دیا اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ تھی اور شام کی منزل بھی ایک مہینے کی راہ اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بادیایا اور جنوں میں سے کچھ وہ تھے جو اسکے سامنے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرتا ہم اسے جلتی ہوئی آگ کا عذاب پکھاتے

إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ⑤
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ
عَلَى رَجُلٍ يُنذِرُكُمْ إِذَا مَرَّكُمْ كُلَّ
مُحَرِّقٍ ۖ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ⑥
أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ
حِشَّةٌ ۗ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبُعِيدِ ⑧

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ إِنَّ
نَشَأَ نَحْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْقُطُ
عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ⑨
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ لِيَجِبَالَ
أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَآلَسَاءُ
الْحَدِيدِ ⑩

أَن أَعْمَلَ سَبِغَتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ
وَأَعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ⑪
وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوها شَهْرٌ وَ
رَوَاحُها شَهْرٌ ۖ وَآسَلْنَا لَهُ عَيْنَ
الْقُطْرِ ۖ وَ مِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ
يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَ مَن يَزِغُ مِنْهُمُ
عَن أَمْرِنَا نَذِقُهُ مِنَ عَذَابِ السَّعِيرِ ⑫

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ
وَتَسَائِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ
رُسِيدٍ اِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا
وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿۱۳﴾
فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ
عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةٌ الْأَرْضِ تَأْكُلُ
مِنْسَاتِهِ ۖ فَلَمَّا خِرَّ تَبَيَّتِ الْعِجُنُ أَنْ
تُوكَا نُورِ يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ مَا لَبِثُوا
فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿۱۴﴾

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ
جَئْتِنِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ
كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ
بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿۱۵﴾

فَاعْرُضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ
الْعَرَمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ
ذَوَاتِ اٰكُلٍ خَمْطٍ وَاَثَلٍ وَّشَنِيءٍ
مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿۱۶﴾

ذٰلِكَ جَزٰٓئُهُمْ بِمَا كَفَرُوْا وَاَهْلُ
تُجْدِي اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ﴿۱۷﴾

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي
بَرَكْنَا فِيهَا قُرَىٰ ظَاهِرَةً وَوَقَدَّرْنَا
فِيهَا السَّبْرَ سَبْرًا فِيهَا لِيَالِي وَ

وہ اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا بناتے تھے (یعنی مسجدیں اور مجتے
اور رڑے بڑے) لکن جیسے تالاب اور ایک جگہ دھری رہنے
والی دیگیں۔ اے آل داؤد شکر کرتے ہوئے عمل کرو۔

اور میرے بندوں میں سے ٹھوڑے شکر گزار ہیں
سو جب ہم نے اس پر موت کا حکم صادر کیا تو انہیں اس کی
موت کا پتہ کسی چیز نے نہ دیا مگر ایک زمین کے کیڑے نے جو
اس کے عصا کو کھا گیا۔ سو جب وہ گر گیا جنوں پر واضح ہو گیا کہ اگر
وہ غیب جانتے تو رسوا کرنے والے دکھ میں
نہ رہتے

سبا کے لیے ان کی سکونت کی جگہ میں ایک
نشان تھا ، دو باغ دائیں اور بائیں تھے۔
اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر کرو
اچھا شہر اور بخشنے والا رب ہے

تو انہوں نے منہ پھیر لیا سو ہم نے ان پر زور کا سیلاب
بھیجا اور ان کے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ بدل دیئے
جن میں تلخ میوے اور جھاؤ اور کچھ ٹھوڑی سی بیریاں
تھیں

یہ سزا ہم نے انہیں دی اس لیے کہ انہوں نے ناشکری
کی اور ہم ناشکر گزار ہی کو سزا دیتے ہیں۔

اور ہم نے ان میں اور ان بستیوں میں جن میں ہم نے
برکت دی تھی نظر آنے والی بستیاں بنائی تھیں اور ہم نے ان میں
سفر کا اندازہ کر دیا تھا ، ان میں راتوں اور دنوں کو امن

آيَا مَا آمِنِينَ ﴿۱۵﴾

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا
أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ
كُلَّ مُزْقٍ طَرَفًا فِي ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
صَبَّأً شَكُورًا ﴿۱۶﴾

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ
فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا قَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۷﴾
وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا
لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ
مِنْهَا فِي شَكٍّ ط وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿۱۸﴾

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ
اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي
السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا
مِنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ ﴿۱۹﴾
وَلَا تَتَفَعَّمِ الشَّفَاعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ
لَهُ ط حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا
مَاذَا لَقِيَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ ۖ وَ
هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿۲۰﴾

قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۖ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ
لَعَلَّ هُدَىٰ أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۲۱﴾

سے چلو

تو انھوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفروں میں
دوری ڈال دے اور اپنی جانوں پر ظلم کیا پس ہم نے انھیں افسانے
بنادیا اور انھیں ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس میں ہر ایک صبر کرنے والے
شکر کرنیوالے کے لیے نشان ہیں

اور شیطان نے ان پر اپنا ظن سچ کر دکھایا، سو مومنوں کی
ایک جماعت کے سوائے انھوں نے اس کی پیروی کی
اور اسے ان پر کوئی غلبہ حاصل نہ تھا مگر یہ اس لیے ہوا کہ
ہم اسے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اس سے الگ کر دیں
جو اس کے بارے میں شک میں ہے اور تیرا رب ہر چیز کا
نگہبان ہے۔

کہ ان کو بلاؤ جنھیں تم اللہ تم کے سوائے (معبود) سمجھتے ہو
وہ ایک ذرہ کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے (نہ آسمانوں میں
اور نہ زمین میں اور نہ ان دونوں میں ان کی کوئی شرکت
ہے اور نہ ان میں اس کا کوئی مددگار ہے۔

اور اس کے ہاں شفاعت کوئی فائدہ نہیں دیتی مگر اس کے
لیے جس کے بارے میں وہ اجازت دے یہاں تک کہ جب ان کے
دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جائے گی کہیں گے کیا ہے جو تمہارے
رب نے کہا ہے کہیں گے حق (فرمایا ہے) اور وہ بلند اور بڑا ہے

کہ کون تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے
کہ اللہ اور ہم یا تم سیدھے رستے پر ہیں یا کھلی گمراہی میں
ہیں

کہ تم سے اس کے متعلق باز پرس نہ ہوگی جو ہم نے جرم کیا ہو اور ہم سے اس کے متعلق پرسش نہ ہوگی جو تم کرتے ہو۔

کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے کہ مجھے وہ دکھاؤ جنہیں تم نے شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے ہرگز نہیں بلکہ وہی اللہ غالب حکمت والا ہے

اور ہم نے تجھے تمام ہی لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے

اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب (پورا) ہوگا، اگر تم سچے ہو۔

کہ تمہارے لیے ایک دن کی مبعاد ہے اس سے تم ایک گھڑی پیچھے نہیں رہ سکتے اور نہ بڑھ سکتے ہو اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کہتے ہیں ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس پر جو اس سے پہلے ہے اور اگر تو دیکھے جب ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے ایک دوسرے کی طرف بات لوتائیں گے جو کمزور تھے وہ انہیں جو بڑے تھے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے۔

جو بڑے تھے وہ انہیں جو کمزور تھے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آگئی بلکہ تم خود مجرم تھے۔

قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۲۵﴾

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿۲۶﴾

قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۷﴾

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۸﴾

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۹﴾

قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿۳۰﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ط

وَكُو تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْتُوا فَوَنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ

يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ لَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿۳۱﴾

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ

جَاءَكُمْ بَلْ كُنتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿۳۲﴾

اور جو کمزور تھے وہ انھیں جو بڑے تھے کہیں گے بلکہ یہ تمہاری رات اور دن کی تدبیریں دیکھیں جب تم ہمیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے شریک ٹھیرائیں اور جب عذاب دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے۔ اور جو کفر کرتے ہیں ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں ان کو بدلہ نہیں ملے گا مگر اسی کا جو وہ کرتے تھے

اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانیا والا نہیں بھیجا، مگر اس کے آسودہ حال لوگوں نے کہا جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الْبَيْلِ وَالتَّهَارِ اِذْ تَامَرُوا وَتَنَاؤُنْ تَكْفُرًا بِاللّٰهِ وَنَجَعَلْ لَهُ اٰنَادًا وَاَسْرُوْا السَّدٰمَةَ لَمَّا رَاوُ الْعَذَابَ طَوَّجَعَلْنَا الْاَعْلٰلَ فِىْ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۳۱﴾
وَمَا اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالِ مُتْرَفُوْهَا لَا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿۳۲﴾

وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَاَوْلَادًا وَاَمَّا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿۳۱﴾
قُلْ اِنَّ سَرِيْٓىٔ يَبْسُطُ الرِّسْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۲﴾

وَمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ بِاِلٰهِيْٓىٔ تُقَدَّرُ بِكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَاَعْمِلْ صٰلِحًا قٰلًا وَاِلَيْكَ لَهُمْ جَزَآءُ الصَّغْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَاَهُمْ فِى الْعُرْفِ اٰمِنُوْنَ ﴿۳۳﴾

وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِىْ اٰيٰتِنَا مُعْجِزِيْنَ اُوْلٰٓئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحَضَّرُوْنَ ﴿۳۴﴾
قُلْ اِنَّ سَرِيْٓىٔ يَبْسُطُ الرِّسْقَ لِمَنْ

اور کہتے ہیں ہم مال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔

کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اور نہ تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد وہ چیز ہے جو مرتبہ میں تمہیں ہمارے قریب کرے مگر جو ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو ان کے لیے ان کے عمل کا دو چند اجر ہے اور وہ بلند مقامات میں امن میں ہوں گے۔

اور جو لوگ ہماری آیتوں کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔

کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے رزق

کی کشائش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کے لیے تنگ کرنا ہے اور جو چیز تم خرچ کرو وہ اس کا بدلہ دیتا ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے

اور جس دن ان سب کو اکٹھا کرے گا پھر فرشتوں کو کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے ؟
 کہیں گے ، تو پاک ہے تو ہمارا کار ساز ہے نہ یہ بلکہ وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے ۔ ان میں سے اکثر ان پر ایمان لانے والے تھے ۔

سو آج تم میں سے کوئی دوسرے کے لیے نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ نقصان کا اور جو ظلم کرتے تھے ہم انہیں کہیں گے آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے ۔

اور جب ان پر ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ، کہتے ہیں یہ صرف ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں ان سے روک دے جس کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے اور کہتے ہیں یہ صرف بنایا ہوا جھوٹ ہے اور کافر حق کے بائے میں جب وہ ان کے پاس آ گیا کہتے ہیں ، یہ تو کھلا جادو ہے ۔

اور ہم نے انہیں کوئی کتاب نہیں دیں جنہیں وہ پڑھتے ہوں اور ہم نے تجھ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانوالا نہیں بھیجا ۔ اور انہوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے اور یہ اس کے

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۳۶﴾

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ أَهْوَأَ لَاءَ آيَاتِكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿۳۷﴾

قَالُوا سُبْحٰنَكَ أَنْتَ وَرَبِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿۳۸﴾

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿۳۹﴾

وَإِذَا تَنَادَى عَلَيْهِمْ إِلٰهِنَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصَدَّكُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ أَبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۴۰﴾

وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿۴۱﴾ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَوْ مَا

بَلَّغُوا مَعَشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا
رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا
لِلَّهِ مَشْنِي وَفِرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ مَا
بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ حِجَّةٍ ط إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ
لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝
قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ط
إِنِ اجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

قُلْ إِن رَّبِّي يُفْضِلُ بِالْحَقِّ عِلَامُ
الْعُيُوبِ ۝

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ مَا يُبْدِي البَاطِلُ
وَ مَا يُعِيدُ ۝

قُلْ إِن صَلَّيْتُ فَأَيُّهَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي
وَ إِنِ اهْتَدَيْتُ فَمَا يُوجِي إِلَىٰ سَرِي ط
إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۝

وَ كَو تَرَىٰ إِذْ فِرَعُوعًا فَلَا قُوَّةَ وَ أَخَذُوا
مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝

وَ قَالُوا أَمَّا بِهِ ءَ وَ آتَىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ
مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝

وَ قَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَ يَقْدِفُونَ
بِالْعُيُوبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝

دوسوں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا سوا انہوں نے
میرے رسولوں کو ٹھٹھلا یا پس میری ناپسندیدگی کی سی تھی

کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے
دو دو اور ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ پھر غور کرو، کہ
تمہارے ساتھی کو کچھ جنون نہیں — وہ صرف تمہیں سخت
عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہے

کہ جو میں تم سے اجر مانگتا ہوں وہ تمہارے لیے ہی ہے۔
میرا اجر صرف اللہ تم پر ہے اور وہ ہر چیز پر
گواہ ہے

کہ میرا رب حق فرماتا ہے، وہ غیب کی باتوں کا خوب
جاننے والا ہے

کہہ حق آگیا اور باطل نہ (کسی امر کی) ابتدا کر سکتا ہے،
اور نہ لوٹا سکتا ہے

کہہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی اپنی ہی جان پر ہے
اور اگر میں سیدھے راہ پر ہوں تو اس کی وجہ سے ہے جو میرا
میری طرف وحی کرتا ہے وہ سننے والا قریب ہے۔

اور کاش تو دیکھتا جب گھبرا اٹھیں گے تو (اس وقت) بچ نہ
سکیں گے اور نزدیک مکان سے پکڑے جائیں گے

اور کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے اور ان کے لیے دور جگہ
سے (ایمان کا) پالینا کہاں (ممکن) ہے

اور اس کا پہلے انکار کر دیا اور دور جگہ سے بن دیکھے (مگر)
پچھو باتیں کرتے ہیں

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ
كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ
إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مَُّرِيبٍ ﴿۲۵﴾

اور ان کے اور ان کی خواہشوں کے درمیان ایک روک ڈال
دی جائے جس طرح پہلے ان جیسے لوگوں سے کیا گیا۔ وہ بے چین
کردینے والے شک میں تھے

سُورَةُ فَاطِرٍ مَّكِّيَّةٌ (۲۵)

اللہ بے انتہا رحم والے بار بار رحم کر نیوالے کے نام سے
سب تعریف اللہ کے لیے ہے (جو) آسمانوں اور زمین کا پیدا
کر نیوالا ہے اور فرشتوں کو رسول بنا نیوالا (جو) دو دو تین
تین چار چار بازوؤں والے ہیں، وہ پیدائش میں جو
چاہتا ہے بڑھاتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے

اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھولے تو اس کو بند کرنے
والا کوئی نہیں اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی
کھولنے والا نہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے
اے لوگو! اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کیا اللہ کے
سوائے کوئی اور پیدا کرنے والا تمہیں آسمان اور زمین سے رزق
دیتا ہے اس کے سوائے کوئی مسبود نہیں، سو تم کہاں
لٹے پھر جاتے ہو۔

اور اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو تجھ سے پہلے رسول بھی جھٹلا
گئے اور اللہ کی طرف ہی (سب) کام لوٹائے جاتے ہیں۔
اے لوگو! اللہ کا وعدہ سچا ہے سو تمہیں دنیا کی زندگی
دھوکا نہ دے اور نہ بڑا دھوکا دینے والا تمہیں اللہ کے بلے
میں دھوکا دے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اَوْۤیُّۤ اَجْحٰحٍ
مَّثَنٰی وَّ ثَلٰثٍ وَّ رُبْعٍ یَّزِیْدُ فِی
الْخَلْقِ مَا یَشَآءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۲۵﴾
مَا یَفْتَحُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا
مُمْسِكَ لَهَا ۗ وَ مَا یُمْسِكُۙ فَلَا مُرْسِلَ
لَهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۗ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۲۶﴾
یٰۤاٰیُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوۤا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ
هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ اللّٰهِ یَرْزُقُكُمْ مِّنَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَلٰٓءَ اِلٰهٍ اِلَّا هُوَ
فَاٰتِی تَوْفِیْکُمْ ﴿۲۷﴾

وَاِنْ یَّكْذِبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ
مِّنۢ قَبْلِكَ ۗ وَاِلٰی اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۲۸﴾
یٰۤاٰیُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا
تَغُرُّكُمْ الْحَیْوةُ الدُّنْیَا ۗ وَلَا یَغُرُّكُمْ
بِاللّٰهِ الْعُرُوْمُ ﴿۲۹﴾

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ
عَدُوًّا لَّاتِمَّا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا
مِنَ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿۷﴾

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿۸﴾

أَفَسَنُزِينُ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ
حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ
عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا
يَصْنَعُونَ ﴿۸﴾

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتَنَّا
سَحَابًا فَسَفَّهَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا
بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴿۹﴾
مَنْ كَانَ يَرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ
جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ
وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ
يَنْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
وَمَكْرٌ أُولَٰئِكَ هُوَ يُبْزَرُ ﴿۱۰﴾

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ
ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ
أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعْمَرُ

شیطان تمہارا دشمن ہے سو اسے دشمن سمجھو وہ صرف
اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ جلتی ہوئی آگ کے رہنے
والوں میں سے ہوں۔

جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور
جو ایمان لائے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، ان کے
لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔

تو کیا وہ شخص جسے اس کا برا عمل بھلا معلوم ہوتا ہے اور وہ اسے
اچھا سمجھتا ہے (ہدایت پاسکتا ہے) سوال اللہ جسے چاہتا ہے
مگر اسی میں چھوڑتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔
پس تیری جان ان پر افسوس کرتے ہوئے ہلاک نہ ہو جائے
اللہ تم خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں

اور اللہ تم وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے سو وہ بادل کو
اٹھاتی ہیں پس ہم اسے ایک مردہ شہر کی طرف چلاتے ہیں
پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کئے ہیں اسی طرح جی اٹھاتا ہے
جو کوئی عزت چاہتا ہے تو سب عزت اللہ کے لیے ہی ہے،
اسی کی طرف پاک کلمہ پڑھتے ہیں اور نیک عمل اس کو بلند کرتا
ہے۔ اور جو لوگ بُری مخفی تدبیریں کرتے
ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی مخفی
تدبیر لیا میٹ ہو جائے گی

اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے پھر تمہیں
جوڑے بنایا۔ اور کوئی عورت حمل میں نہیں لیتی اور
نہ جنتی ہے مگر اسے علم ہوتا ہے، اور کسی عمر والے کو

عمر نہیں دی جاتی اور نہ کسی کی عمر کم ہوتی ہے ، مگر یہ
(سب کچھ) ایک کتاب میں ہے یہ اللہ تم پر آسان ہے۔

اور دو دریا برابر نہیں ، یہ میٹھا ہے خوش ذائقہ ،
اس کا پینا خوش گوار ہے اور یہ کھاری ہے کڑوا۔
اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور
زیور نکالتے ہو ، جسے تم پہنتے ہو۔

اور توکشتیوں کو دیکھنا ہے کہ اسے پھاڑتی چلی جاتی ہیں۔
ناکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو

وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل
کرتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے۔
ہر ایک ایک وقت مقرر کے لیے چلتا ہے۔ یہ اللہ تم
تمہارا رب ہے ، اسی کی بادشاہت ہے اور وہ جنہیں تم اس

کے سوائے پھارتے ہو وہ ایک ذرہ بھرا اختیار نہیں رکھتے
اگر تم انہیں بلاؤ تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے اور اگر سنیں
تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں اور قیامت کے دن تمہارے
شرک کا انکار کریں گے اور (خدا نے) باخبر کی طرح کوئی
تجھے خبر نہ دے گا

اے لوگو! تم اللہ کے محتاج ہو ، اور اللہ تم بے نیاز
تعرین کیا گیا ہے۔

اگر چاہے تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے۔
اور یہ اللہ تم پر شکل نہیں۔

اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا اور

مِنْ مُعَسَّرٍ وَ لَا يُنْقَضُ مِنْ عُمُرِهِ
الْآفِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ⑩

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ
فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَ هَذَا مِلْحٌ

أَجَابٌ وَ مِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا
طَرِيًّا وَ تَسْتَحْرِجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا

وَ تَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لَتَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⑪

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُولِجُ النَّهَارَ
فِي اللَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ⑫

كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ
اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ

مِنْ دُونِهِ مَا يَبْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ⑬
إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَ كَوُّوْ

سَعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَ لَا يُنَبِّئُكَ
مِثْلُ خَبِيرٍ ⑭

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ
وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ⑮

إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ⑯
وَ مَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ⑰

وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَ إِنْ

تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَآ لَا يَحْمِلُ مِنْهُ
شَيْءٌ وَلَا كُوْكَاَنَ ذَا قُرْبَىٰ اِنَّمَا تُنذِرُ
الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا
الصَّلٰوةَ وَاَمَّنْ تَزَكٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكٰى
لِنَفْسِهٖ ۗ وَاِلٰى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿۱۸﴾

وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ﴿۱۹﴾

وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ﴿۲۰﴾

وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحُرُوْرُ ﴿۲۱﴾

وَمَا يَسْتَوِي الْاَحْيَآءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ

اِنَّ اللّٰهَ يَسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاَنْتَ

بِسْمِيعٍ مِّنْ فِى الْقُبُوْرِ ﴿۲۲﴾

اِنَّ اَنْتَ الْاَلَا نذِيْرٌ ﴿۲۳﴾

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّاَنْذِيْرًا

وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نذِيْرٌ ﴿۲۴﴾

وَاِنْ يُكٰدِبُوْكَ فَقَدْ كٰذَبَ الَّذِيْنَ مِنْ

قَبْلِهِمْ ۗ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ

وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿۲۵﴾

ثُمَّ اَخَذَتْ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاَكْفَفْ

كَانَ نَكِيْرٌ ﴿۲۶﴾

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً

فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ شَجَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَآ

وَمِنْ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَّاَحْمَرٌ

اگر کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنے بوجھ (کے ہٹانے) کے لیے بلائے
اس کے بوجھ میں سے کچھ نہ اٹھایا جا سکا اگرچہ قریبی ہو، تو صرف انہیں
ڈرتا ہے جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز قائم
کرتے ہیں اور جو کوئی اپنے آپ کو پاک کرتا ہے تو اپنی ہی جان رکھی
بھلائی کے لیے پاک کرتا ہے اور اللہ کی طرف ہی پھر کر جاتا ہے۔

اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں۔

اور نہ اندھیرا اور روشنی۔

اور نہ سایہ اور دھوپ

اور نہ ہی زندے اور مُردے برابر ہیں۔ اللہ

(تعالیٰ) جسے چاہتا ہے سنا تا ہے اور تو انہیں سنانے

والا نہیں، جو قبروں میں ہیں

تو صرف ڈرانے والا ہے۔

مہم نے تجھے حق کے ساتھ خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا

نہا کر بھیجا ہے اور کوئی قوم نہیں مگر اس میں ڈرانے والا گذر چکا

اور اگر تجھے جھٹلائیں تو انہوں نے بھی اپنے رسولوں کی جھٹلایا جو

ان سے پہلے تھے۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی دلیلوں

اور صحیفوں اور روشن کرنے والی کتاب کے ساتھ آئے۔

پھر میں نے انہیں پکڑا جنہوں نے کفر کیا، سو میری

ناپسندیدگی کیسی تھی۔

کیا تو نے غور نہیں کیا کہ اللہ بادل سے پانی اتارتا ہے،

پھر ہم اس کے ساتھ پھل نکالتے ہیں جو مختلف قسموں کے ہیں۔

اور پہاڑوں میں سفید اور سُرخ نخطے ہیں، جن کے

رنگ مختلف ہیں اور بعض نہایت سیاہ ہیں اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چارپایوں کے رنگ کئی طرح کے ہیں۔ اللہ تم سے صرف اس کے علم والے بندے ڈرتے ہیں۔

اللہ غالب بخشنے والا ہے

جو لوگ کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اس سے جو ہم نے انھیں دیا چھپ کر اور ظاہر خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو تباہ نہیں ہوگی۔ تاکہ وہ انھیں ان کے اجر پورے لے اور اپنے فضل سے انھیں بڑھ کر دے وہ بخشنے والا قادر دان ہے۔

اور کتاب جو ہم نے تیری طرف وحی کی ہے وہ حق ہے اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے ہے۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں سے خبردار (انھیں) دیکھنے والا ہے۔

پھر ہم نے کتاب کا وارث ان کو بنایا جنھیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا سو کوئی ان میں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی ان میں سے میانہ رو ہے، اور کوئی ان میں سے اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے یہی بڑا افضل ہے

ہمیشگی کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے ان میں انھیں سونے کے کنگن اور موتی پنائے جائیں گے۔ اور ان کا لباس ان میں ریشم ہوگا۔

اور کہیں گے سب تعریف اللہ تم کے لیے ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب مغفرت کرنے والا قادر دان ہے۔

مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَايِبٌ سُودٌ ﴿۳۷﴾
وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ
مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَحْسَبِي
اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ عَفُورٌ ﴿۳۸﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَ
عَلَانِيَةً يَسِرُّونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا ﴿۳۹﴾
لِيُؤْفِقَهُمُ اجْوَرَهُمْ وَيَزِيدَهُمُ مِّنْ
فَضْلِهِ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿۴۰﴾

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ
هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿۴۱﴾

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا
مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ
وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ

يَأْذِنُ اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿۴۲﴾
جَثَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا
مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤًا

وَلِبَاسَهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿۴۳﴾
وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا
الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿۴۴﴾

الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ
لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا
فِيهَا كُؤُوبٌ ﴿۳۵﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا
يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُحْقَفُوا
عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ
نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿۳۶﴾

وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا
نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ
أَوْ كُمْ نُعَذِّبْكُمْ مَا تَذَكَّرْتُمْ مَنْ
تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا
فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿۳۷﴾

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۳۸﴾

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ
فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ
الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا
وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿۳۹﴾

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ
الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ
أَمْ أتیٰهُمُ كِتَابٌ فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْهُ

وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ٹھیرنے کے گھر میں اتارا نہ ہمیں
اس میں مشقت ہوگی اور نہ ہمیں اس میں مکان
ہوگی
اور جو کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے ، نہ ان
کا کام تمام کیا جائے گا کہ مر جائیں اور نہ کچھ اس کا
عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ اسی طرح ہم ہر نافر کے
کو سزا دیتے ہیں۔

اور وہ اس میں چلائیں گے ہمارا رب ہمیں نکال دے۔
ہم اچھے عمل کریں گے نہ وہ جو پہلے کرتے تھے۔ کیا ہم نے
تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ اس میں نصیحت حاصل کر لیتا جو نصیحت حاصل
کرنا چاہتا تھا اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا سو چکھو کیوں کہ
ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں

اللہ تمہے آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے۔ وہ
سینوں کی باتوں کو (بھی) جاننے والا ہے۔

وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں حاکم بنایا ، سو جو کوئی
کفر کرے تو اس کا کفر اسی پر ہے اور کافروں کو ان کا
کفر انکے رب کے نزدیک صرف بغض میں بڑھاتا ہے۔
اور کافروں کو ان کا کفر صرف نقصان میں بڑھاتا ہے۔

کہہ کیا تم اپنے شرکیوں کو دیکھتے ہو جنہیں تم اللہ کے سوا
پکارتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین سے کیا پیدا
کیا ہے یا ان کے لیے آسمانوں میں شرکت ہے ،
یا ہم نے انہیں کتاب دی ہے تو وہ اس کی کھلی دیں پر قائم ہیں

بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
إِلَّا غُرُورًا ⑤

إِنَّ اللَّهَ يَمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
أَنْ تَزُولَا وَ لَئِنْ سَأَلْتَا أَنْ
أَمْسِكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ
كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ⑥

وَ أَسْمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ
جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ
إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ
مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ⑦

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَ مَكْرَ السَّيِّئِ
وَ لَا يَحِينُ الْمَكْرَ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ
فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ
فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ⑧

وَ كُنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ⑨
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ مَا كَانَ

اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ
وَ لَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ⑩

وَ كَوَيْلًا أَخَذَ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا
مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَ لَكِنْ

بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں ،
صرف دھوکا ہے۔

اللہ تم ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ اپنے
رستہ سے ہٹ نہ جائیں۔

اور اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد کوئی نہیں جو انہیں تھام
سکے ، وہ بُر دبار بخشنے والا ہے

اور اللہ کی کئی قسمیں کھاتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے
والا آئے تو وہ قوموں میں سے ہر ایک سے بڑھ کر ہدایت والے
ہوں گے پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا آیا تو اس نے
انہیں نفرت میں ہی بڑھایا

زمین میں تکبر اور بُری تدبیریں کرنے لگے۔ اور بُری
تدبیر کا وبال صرف اس کے کرنے والے پر ہی پڑتا
ہے ، سو یہ پہلوں کے ہی بڑاؤ کا انتظار کرتے ہیں
سو تو اللہ تم کے طریق میں کوئی تبدیلی نہ پائے گا۔

اور نہ تو اللہ کے طریق کو ٹٹا ہوا پائے گا۔

اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ، پس دیکھنے کہ
ان کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے ، اور وہ

قوت میں ان سے بڑھ کر تھے۔ اور اللہ تم ایسا
نہیں کہ اسے کوئی چیز عاجز کر دے (نہ آسمانوں میں

اور نہ زمین میں) وہ جاننے والا قدرت والا ہے۔

اور اگر اللہ تم لوگوں کو اس پر پکڑتا جو وہ کرتے ہیں تو
اس کی پیٹھ پر کوئی حیوان نہ چھوڑتا۔ لیکن وہ انہیں

يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۝

ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے ، سو جب ان کا وقت آجائے گا۔ تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے

سُورَةُ يَسٍ مَكِّيَّةٌ (۳۶)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

يَسٍ ۝

وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

تَنْزِيلِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ

فَهُمْ غَافِلُونَ ۝

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

إِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ

إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ۝

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ

خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَعْشَيْنَهُمُ فَهُمْ لَا

يُبْصِرُونَ ۝

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ

تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ

اللہ بے انتہا رحم والے بار بار رسم کرنیوالے کے نام سے
اے انسان رکال
حکمت والا قرآن گواہ ہے
کہ تو پیغمبروں میں سے ہے۔
سیدھے رستہ پر ہے۔
غالب رحم والے نے امارا ،
تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے ، جن کے باپ دادا نہیں
ڈرائے گئے سو وہ غافل ہیں
ان میں سے بہتوں پر بات پوری ہوئی سو وہ
ایمان نہیں لاتے
ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈالے ہیں اور وہ
ٹھوڑیوں تک ہیں سو ان کے سرواچھے کے اونچے رہ گئے ہیں
اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار بنا دی ہے اور ایک
دیوار ان کے پیچھے بھی ، یوں ان پر پردہ ڈال دیا ہے
سو وہ نہیں دیکھتے
اور ان کے لیے برابر ہے کہ تو انھیں ڈرائے یا نہ
ڈرائے وہ ایمان نہیں لاتے۔
تو صرف اسے ڈرا سکتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے

وَحَشَى الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ
بِسُغْفِرَةٍ وَّ أَجْرٍ كَرِيمٍ ۝۱۱

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا
قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ
أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝۱۲

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ
إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۝۱۳

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا
فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ۝۱۴

قَالُوا مَا آتَاكُمْ إِلَّا بَشْرٌ مِّثْلْنَا وَمَا
أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْتُمْ
إِلَّا تَكْذِبُونَ ۝۱۵

قَالُوا رَبَّنَا عَلِّمْنَا لِنَا إِيَّاكَ لَعَلَّكُمْ تُرْسَلُونَ ۝۱۶
وَمَا عَلَّمْنَا إِلَّا الْبَلْغَ الْمُبِينُ ۝۱۷

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ
تَنْتَهُوا لَنَرْجِسَنَّكُمْ وَكَرِهْنَا

عَذَابَ آيِيكُمْ ۝۱۸

قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُمْ
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝۱۹

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى
قَالَ يَقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ۝۲۰

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُنْتَدُونَ ۝۲۱

اور رحمن سے غیب میں ڈرتا ہے، سو اُسے منفرت اور
عزت والے رزق کی خوش خبری دے دے۔

ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھ لیتے ہیں جو وہ
آگے بھیجتے ہیں اور ان کے نشان پچھپہ جاتے ہیں اور ہر ایک چیز کو ہم
ایک کھلی کتاب میں محفوظ کر لیتے ہیں

اور ان کے لیے گاؤں کے رہنے والوں کی مثال بیان کر، جب
ان کے پاس رسول آئے

جب ہم نے ان کی طرف دو (رسول) بھیجے تو انھوں نے دونوں کو جھٹلایا تب ہم
تیسرے سے قوت دی سو انھوں نے کہا ہم تمھاری طرف رسول ہیں۔

انھوں نے کہا، تم تو ہماری طرح انسان ہی
ہو، اور رحمن نے کچھ نہیں اتارا۔ تم جھوٹ
ہی کہتے ہو۔

انھوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمھاری طرف ضرور بھیجے گئے ہیں۔
اور ہمارے ذمے سوائے کھول کر پہنچا دینے کے اور کچھ نہیں۔

انھوں نے کہا ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے اگر تم باز نہ آؤ، تو
ہم تمہیں پتھر ا دیں گے اور ہماری طرف سے ضرور تمہیں

دردناک دُکھ پہنچے گا۔

انھوں نے کہا تمھاری نحوست تمھارے ساتھ ہی ہے کیا اس لیے
کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو

اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اہل
نے کہا اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو

ان کی پیروی کرو جو تم سے اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت دہر رہیں۔